

26.2.2015

Appellant with counsel and Add. AG for the respondents present. Case is adjourned to 10.3.2015 for order.


MEMBER



MEMBER

10.3.2015

Appellant with counsel (Sahibzada Assadullah, Advocate) and Mr. Muhammad Jan, GP with Imranullah, S.I (Legal) for the respondents present. Arguments heard. Record perused. Vide our detailed judgment of to-day in connected Service Appeal No. 233/2014, titled Balizar Versus Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar etc.", this appeal is also disposed of as per detailed judgment. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.


ANNOUNCED
10.3.2015


MEMBER


MEMBER

22.12.2014

Junior to counsel for the appellant and Mr. Muhammad Adeel Butt, AAG with Imranullah, SI (Legal) for the respondents present. The Tribunal is incomplete. To come up for the same on 19.01.2015.



READER

19.1.2015

Junior for counsel for the appellant and Mr. Muhammad Adeel Butt, AAG for the respondents present. It was submitted on behalf of the appellant that cases of similar nature have been fixed for arguments on 20.1.2015 and request made for adjournment to 20.1.2015. As such, case to come up for arguments on 20.1.2015.



MEMBER

21.01.2015

Since 20th January has been declared as public holiday by the provincial government, therefore, case to come up for the same on 2.2.2015.




READER

2.2.2015

Appellant with counsel and Mr. Muhammad Adeel Butt, AAG with Imranullah, SI (Legal) for the respondents present. Arguments heard. To come up for order on 26.2.2015.




MEMBER



MEMBER


08.08.2014

Counsel for the appellant and Mr. Imranullah, SI (Legal) on behalf of the respondents with AAG present. Written reply/para-wise comments received on behalf of the respondents, copy whereof is handed over to the learned counsel for the appellant for rejoinder alongwith connected appeals on 8.12.2014.


Chairman

15.09.2014

Counsel for the appellant and Mr. Muhammad Adeel Butt, AAG with Imranullah, SI (Legal) for the respondents present. The learned Member (Judicial) is not working due to a recent order of the Hon'ble Peshawar High Court affecting his status as District & Sessions Judge. To come up as before on 10.10.2014.


READER


10.10.2014

Junior to counsel for the appellant and Mr. Kabeerullah Khattak, Asstt. A.G for the respondents present. Rejoinder received and placed on file. Copy handed over to the learned AAG. To come up for arguments on 25.11.2014 alongwith connected appeals.


MEMBER

24.11.2014

Clerk to counsel for the appellant and Mr. Muhammad Jan, GP with Imranullah, SI (Legal) for the respondents present. The Tribunal is incomplete. To come up for the same on 22.12.2014.


READER

Appeal No. 237/2014
Mr. Zaib Ahmad


16.04.2014

Clerk of counsel for the appellant present and requested for adjournment due to general strike of the Bar. To come up for preliminary hearing on 02.05.2014.



Member

02.05.2014

Counsel for the appellant present. Preliminary arguments heard and case file perused. Counsel for the appellant contended that the appellant has not been treated in accordance with law/rules. Against the original order dated 06.12.2013, he filed departmental appeal on 10.12.2013, which has been rejected on 06.02.2014, hence the present appeal on 21.02.2014. He further contended that the impugned order dated 06.02.2014 has been issued in violation of Rule-5 of the Civil Servant (Appeal) Rules 1986. Points raised at the Bar need consideration. The appeal is admitted to regular hearing subject to all legal objections. The appellant is directed to deposit the security amount and process fee within 10 days. Thereafter, Notices be issued to the respondents. Appellant has also filed an application for suspension of the impugned orders dated 06.12.2013 and 06.02.2014. Notice of application should also be issued to the respondents for reply/arguments. To come up for written reply/comments on main appeal as well as reply/arguments on application on 03.06.2014.


Member

This case be put before the Final Bench for further proceedings.


Chairman

Appellant Detained
Court Fee
180/- Bank
File with File.

03.05.2014



3.6.14

The Hon'ble bench 5 on Ray
Ray on 5 edged B 8.8.14
RD
Rach

Form- A
FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No. 237/2014

S.No.	Date of order Proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	21/02/2014	<p>The appeal of Mr. Zaib Ahmad presented today by Mr. Sahibzada Asadullah Advocate may be entered in the Institution register and put up to the Worthy Chairman for preliminary hearing.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR 21/2/14</p>
2	26-2-2014	<p>This case is entrusted to Primary Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>16-4-2014</u>.</p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR

Service Appeal No. 237/2014

Zaib Ahmad.....(Appellant)

VERSUS

Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

And others.....(Respondents)


I N D E X

S.No	Description of Documents	Pages
1.	Service Appeal	1-8
2.	Affidavit	9
3.	Addresses of the parties	10
4.	Copy of show cause notice dated 23/10/2013 and explanation dated 28/10/2013	11-12
5.	Copy of charge sheet dated 28/11/2013 and reply of the appellant dated 28/11/2013	13-14
6.	Copy of the order dated 28/11/2013	15
7.	Copies of statement of appellant along with certificates	16-21
8.	Copies of inquiry report and order dated 06/12/2013	22-30
9.	Copy of appeal and order dated 06/02/2014	31-32
10.	Copies of F.I.R No. 408 and recommendation for promotion	33-35
11.	Copies of Naqal Mad No. 55 & 33	36-37
12.	Wakalat Nama	38


Appellant

Through

Dated: 14/02/2014


Sahibzada Asadullah
Advocate Supreme Court
Of Pakistan.
Cell No. 0313-9772262

①

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR**

Service Appeal No. 237/2014

251
2.1-2-14

Zaib Ahmad S/o Noor Muhammad

R/o Village Shalbandi, District Bunir.....(Appellant)

VERSUS

1. Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Regional Police Officer (DIG), Malakand at Saidu Sharif, Swat.
3. District Police Officer, Bunir.....(Respondents)

**APPEAL U/S 4 OF THE N.W.F.P (KHYBER
PAKHTUNKHWA) SERVICE TRIBUNAL ACT 1974
AGAINST THE IMPUGNED ORDERS DATED
06/12/2013 AND 06/02/2014 PASSED BY THE
DISTRICT POLICE OFFICER BUNIR AND
REGIONAL POLICE OFFICER, MALAKAND AT
SAIDU SHARIF SWAT RESPECTIVELY.**

Respectfully Sheweth:

Brief facts giving rise to the instant appeal are as under:

21/2/14
FACTS:

1. That the appellant joined the Police Department on 01/04/1991 as constable and performed his duties at

various police stations with commitment and devotion. The appellant after passing A (1) and B (1) examinations was sent by the high-ups for his Lower Course. After completing his lower course in 1997 owing to the trust of the high-ups the appellant performed his duties whole heartedly finally in the year 2004 was promoted to the post of Head Constable.

2. That the appellant having thrust for success worked hard and in the year 2010 passed his intermediate examination was promoted to the post of ASI in 2011, throughout his career the appellant did his duties with honesty and punctuality.
3. That on 21/10/2013 the appellant was closed to police line where the appellant was served with a show cause notice from DPO Bunir on 23/10/2013 where the appellant gave a detailed explanation on 28/10/2013 to the show cause notice. (Copy of show cause and explanation are attached).
4. That the appellant was charge sheeted on 28/11/2013 where charges of corruption were leveled against the appellant that too on the basis of source report where the

appellant submitted a detailed reply by explaining his position on 28/11/2013. (Copy of charge sheet and reply of the appellant are attached).

5. That on 28/11/2013 the respondent No. 3 recommended disciplinary action against the appellant and others in accordance with provision of the Police Rules 1975 and for the purpose Ghulam Muhammad DSP Head Quarters was appointed as inquiry officer. (Copy of the order dated 28/11/2013 is attached).
6. That during inquiry the appellant recorded his detailed statement regarding his position. The Station House Officers, where the appellant performed his duties issued certificates in favour of the appellant. (Copies of statement of appellant along with certificates are attached).
7. That the inquiry officer prepared his finding report on 30/11/2013 where he opined that the appellant along with others are not suitable for field posting. The respondent No. 3 on the strength of the inquiry report passed the impugned order where the appellant was compulsorily retired from service vide order dated

06/12/2013 from the date of their suspension. (Copies of inquiry report and order dated 06/12/2013 are attached).

8. That being aggrieved of the order of respondent No. 3 the appellant preferred an appeal before respondent No. 2 which got the same fate vide order dated 06/02/2014. (Copy of appeal and order dated 06/02/2014 are attached).
9. That being aggrieved the appellant prefers this appeal on the following grounds amongst others inter-alia:

GROUND:

- A. That the impugned orders are arbitrary, mechanical and without the application of judicial mind and passed in vacuum needs interference of this august Tribunal.
- B. That the appellant has served the department since 1991 with his initial appointment as constable but having curiosity to work hard the appellant passed the required examinations and on the strength of his hard work he reached to the post of ASI, throughout his career the

high-ups trusted him and no complaints whatsoever was made against him during his stay at various police stations.

C. That the appellant struggled hard and even retained his position at the time when Bunir was passing through hard times when the terrorists challenged the writ of the Government without caring for his life and this is unfortunate to say that his brother Said Mohammad Khan SI was killed by the terrorist and even owing to a terrorist attack on police check post case F.I.R No. 409 dated 08/08/2008 u/s 302/324/353/404/148/149 PPC r/w 7 ATA P.S Pir Baba was registered against unknown culprits and later on 13/08/2008 the appellant along with local people took the steps to kill those a terrorist in respect of which the recommendation for his promotion was made to the D.I.G Malakand Region Swat on 02/09/2008 (Copies of F.I.R No. 408 and recommendation for promotion are attached).

D. That the respondents No. 2 & 3 through the blind orders stigmatized the bright career of the appellant not only through this illegal order within the department but in the public as well.

- E. That this is the element of surprise that on 21/10/2013 the appellant was closed to the police line, on 23/10/2013 was served with a show cause notice which was duly replied but that did not help the appellant. On 28/11/2013 charge sheet was served upon the appellant, to which the appellant also submitted detailed reply but instead the DPO Bunir ordered the conduct of inquiry and for that matter inquiry officer was deputed to record the statements of all concerned. The inquiry was conducted in a strange manner that during the inquiry the appellant also handed over various certificates issued in his favour by different station house officers.
- F. That on the conclusion of the inquiry the inquiry officer while submitting his finding report could not find any adverse material against the appellant and no one from the public came forward to record any complaint against the appellant rather the recommendation was based only upon the hearsay and concocted source report.
- G. That all the proceedings were conducted in haphazard manner and no procedure was followed in strict sense but the hurry shown clearly shows the intention of the

respondents to make the appellant and some others scape goats so that to help the provincial Government to score in the eyes of public.

- H. That this is surprising that the appellant was on one hand suspended where as on the other hand vide Naqal Mad No. 55 dated 06/12/2013 he was sent along with Nafri to Wah Factory and vide Naqal Mad No. 33 dated 06/12/2013 he reported back. The respondents No. 1 and No. 2 were bending upon to issue the impugned orders at any cost which they called a policy of the K.P.K Government. (Copies of Naqal Mad No. 55 & 33 are attached).
- I. That no material has been brought on record during the inquiry nor any person was produced in support of the leveled allegations which could justify the stance of the respondents.
- J. That the appellant is innocent and has been retired compulsory which is a major punishment which is not in accordance with the police rules and the law laid down for the purpose.

8

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of this service appeal, the appellant may kindly be reinstated to his post with all back benefits and the impugned orders dated 06/12/2013 and 06/02/2014 passed by respondents No. 2 and 3 may kindly be set aside.


OR

Any other relief which this august Tribunal deems appropriate may kindly be awarded to meet the ends of justice.


Appellant

Through

Dated: 14/02/2014


Sahibzada Asadullah
Advocate Supreme Court
Of Pakistan.

9

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR

Service Appeal No. ____/2014

Zaib Ahmad.....(Appellant)

VERSUS

Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

And others.....(Respondents)

AFFIDAVIT

I, Sahibzada Asadullah Advocate, as per instruction of my client, do hereby solemnly affirm and declare, that all the contents of accompanying Service Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been kept concealed from this Hon'ble Tribunal.



9
ADVOCATE

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR**

Service Appeal No. ____/2014

Zaib Ahmad.....(Appellant)

VERSUS

Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

And others.....(Respondents)

ADDRESSES OF THE PARTIES

APPELLANT:

Zaib Ahmad S/o Noor Muhammad
R/o Village Shalbandi, District Bunir.


RESPONDENTS:

1. Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Regional Police Officer (DIG), Malakand at Saidu Sharif, Swat.
3. District Police Officer, Bunir.


Appellant

Through

Dated: 14/02/2014


Sahibzada Asadullah
Advocate Supreme Court
Of Pakistan.

(11)

SHOW CAUSE NOTICE.

WHEREAS, as you the following officers / officials involved in Corruption as per source report.

<u>S.No.</u>	<u>Name & Rank</u>	<u>Place of Posting</u>
1.	SI Balizar Khan (Invest.)	I/C Invest. PS Totalai.
2.	ASI Muhammad Wahab	PS Daggar.
3.	ASI Anwar Saeed	PS Gagra
4.	ASI Muhammad Zahid	Police Lines
5.	ASI Zeb Ahmad	PS Totalai
6.	HC Khan Sher	MHC PS Jowar
7.	HC Sher Muhammad	I/C Guard Koga Camp
8.	HC Sher Afzal	PPP Durmai.
9.	HC Bahrawar Said	MM PS Daggar.
10.	HC Sher Wali	I/C PPP Katil Kandaw
11.	HC Aman Khan	PP Budal.

You have therefore, committed misconduct which is punishable under rules 4 of Police Rules 1975.

Now therefore, as required by the KPK Police 1975 I ASIF IOBAL MOHMAND District Police Officer, Buner call upon to show-cause as to why you should not be awarded major punishment as defined u/r-4 (b) of the said rules.

Your explanation should reach the undersigned within 7 days of the receipt of this notice.

You should state in-writing as to whether you wish to be heard in person or not?

In case your written explanation is not received within the specified period, it should be presumed that you have no defence to offer.


DISTRICT POLICE OFFICER,
BUNER.

No. 529-39/EC.

Dated 23-10-2013.


ATTESTED

جناب عالی! بحوالہ آمدہ مشمولہ شوکار لوئیس نمبر $\frac{529.39}{EC}$

مورخہ $\frac{23}{13}$ عدد میں ہوں کہ سائیل سال 1991ء میں
حیثیت گنسیٹیل ہرنی ہو کر لوئر اور انٹر میڈیٹ
کورسز پاس کر کے بعدہ Asi ترقیاب ہو چکا ہے
سائیل نے اپنی عرصہ ملازمت میں مختلف تہا نہ جات
جو کیات اور دفاتر لوئیس میں فراہمن انجام دے
چکا ہے اور اس دوران بھی کرشن میں ملوث نہیں
دیا ہے بلکہ ملازمت دیانتداری اور بہادری کا مظہر
رہا ہے۔ اب سائیل تہا نہ طوطالی میں عرصہ قریب $\frac{3}{4}$
ماہ سے حیثیت Asi پریشنل سٹاف میں فراہمن انجام
دے رہا تھا۔ اس دوران بھی سائیل نے اپنی فراہمن
دیانتداری سے اور بہادری سے انجام دیا ہے اور سائیل
کبھی بھی کرشن میں ملوث نہیں رہا۔ اور نہ ہی سائیل
کے خلاف کوئی بھی شکایت ہوئی ہے۔ جہاں تک سروس
رلوٹ کا تعلق ہے تو میں ٹھہرت اور جھوٹ پر مبنی
اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔

استعمال شدہ شوکار لوئیس بلا کسی نہ
کادوائی کے فائل کر نے کی احکامات ہادر فرمائے جاوس
سائیل بمخون منکورد رہینگا۔

العارض

ذیب احمد Asi تہا نہ طوطالی حال
پولیس رائن ڈگر مورخہ $\frac{23}{13}$

9

(13)

CHARGE SHEET

ASIF IOBAL MOHMAND, District Police Officer, as competent authority do hereby charge you the following Upper / Lower Subordinates while posted in Police Lines Daggar as follows.

It has been reported against you that you while posted Police Lines Daggar committed the following act/acts.

As per source report, you are the following Upper / Lower Subordinates were found involve under corruption during the posting of various places.

<u>S.No.</u>	<u>Name & Rank</u>	<u>Previous Posting</u>	<u>Caused to Police Lines on 12/10/2013</u> <u>On the cause of corruption</u>
1.	S. Balizar Khan	I/C Invest. Fotalai	-do-
2.	ASI Muhammad Wahab	PS Daggar	-do-
3.	ASI Anwar Saeed	PS Gagra	-do-
4.	ASI Muhammad Zahid	Police Lines	-do-
5.	ASI Zeb Ahmad	PS Totalai	-do-
6.	HC Khan Sher	MHC PS Jowar	-do-
7.	HC Sher Muhammad	I/C Gurad Koga	-do-
8.	HC Sher Afzal	PPP Durmai	-do-
9.	HC Bahrawan Said	MM PS Daggar	-do-
10.	HC Sher Wali	I/C PPP Katil	-do-
11.	HC Aman Khar	PP Budal	-do-

Which are gross misconduct on your part as defined in Rule 2 (iii) of Police Disciplinary Rules, 1975.

By reason of above, you appear to be guilty of misconduct and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in Rule 4 of Police Disciplinary Rules, 1975.

You are therefore, required to submit your written reply within 7 days of the receipt of this charge sheet to the enquiry Officer.

Your written reply, if any, should reach to the Enquiry Officer within the specified period. In case failing, it shall be presumed that you have no defense to put-in and an appropriate action will be followed against you.

Inmate, as to whether you desire to be heard in person or not?
Statement of allegation is enclosed.


DISTRICT POLICE OFFICER
JUNER

ATTESTED

ضابطہ عالیٰ

حاجہ چارج شیٹ نمبر 572-84/13 حوض 28 مجاہد سہیل
 DPo صاحب لوہنیر عسکریں عورت یوں مسائل 9/19 میں
 میں جنت کشتل بھرتی بیوسر لوہنیر کورس اور انٹرمدیٹ کورس
 PTC جھنگ سے پاس کر کے لیڈرہ ASI شریہ بیوی کا ہے
 مسائل اپنے عرصہ ملازمت میں مختلف مقامات پر جاب چوکیاٹ
 دیا تر کھولیں۔ لوہنیر میں صاف لکھن ایسا اندری اور صلواں
 نیت بنا دیئے سے سرانجام دی ہے اسی دوران کبھی
 کمریشن میں ملوث نہیں رہا ہے۔ 2008 سے علاج بعد میں
 حالات کشیدہ ہونے پر مسائل نے دیشٹ ٹیوں کا مقابلہ
 کیا ہے۔ اور مقام سٹیٹنڈس ایڈ فوٹی لکھن سے ساگو دست
 ٹیوں کا مقابلہ کر کے جو دست گرد مارے گئے جو ایک اور
 موجود ہیں۔ مسائل نے طویلانی میں 7 حد شریہ 4/3 ماہ سے
 جنت ASI ایسٹرن سٹاف میں لکھن سرانجام دے رہا تھا
 اور مسائل کبھی بھی کمریشن میں ملوث نہیں رہا اور وہ کسی مسائل
 کے خلاف کوئی شکایت نہیں دی ہے۔ جہاں تک کمریشن میں ملوث
 تعلق ہے۔ من کھڑا اور جھوٹا ہر بیوی سے اس میں کوئی شکایت نہیں
 اگر سرس رپورٹ کو سامنے لائے جائے تو تب تک خلاف میں
 اپنی بے گناہی پیش کرے گا۔ اور اس کے عہدہ میں صاحب DPo
 لوہنیر کو عرض کرے گا کہ میں نے کبھی نہیں سوئے

اشدعا علیہ حاجہ شیٹ کو بیدار تیس کارروائی غائب کرتے
 کے انتقامات عہدہ فرمائیں جاوے مسائل ناقصات دعا گو
 رہتا ہے

سہیل

DISCIPLINARY ACTION

15

ASIF IQBAL MOHMAND District Police Officer, Buner as incompetent and inefficient in the opinion that the following Upper / Lower Subordinates while posted as Police Lines have rendered yourself liable to be proceeded against departmentally as you have committed the following acts / omission as defined in Rule 2 (iii) of Police Rules 1975.

STATEMENT OF ALLEGATION

That it has been reported against you that you while posted Police Lines, committed as per source report, you are the following Upper / Lower Subordinates who are involved under corruption during the posting at various places.

S.No.	Name & Rank	Previous Posting	closed to Police Lines on 12.03.13 (On the cause of corruption)
1.	SI Bali tar Khan	I/C Invest: Totalai	-do-
2.	ASI Muhammad Wahab	PS Daggar	-do-
3.	ASI Arwar Saeed	PS Gagra	-do-
4.	ASI Muhammad Zahid	Police Lines	-do-
5.	ASI Zeb Ahmad	PS Totalai	-do-
6.	IC Ka in Sner	MHC PS Jowar	-do-
7.	IC Sher Muhammad	I/C Gurad Koga	-do-
8.	IC Sher Afzal	PPP Durwan	-do-
9.	IC Bahrawan Said	MM PS Daggar	-do-
10.	IC Sher Wali	I/C PPP Kahil	-do-
11.	IC Amir Khan	PP Budai	-do-

That it is gross misconduct on your part as defined in Rule 2 (ii) of Police Rules 1975.

For the purpose of scrutinizing the conduct of said officer with reference to the charges, Mr. Ghulam Muhammad Khan DSP HQB is appointed as enquiry officer.

The Enquiry officer shall conduct proceeding in accordance with provision of Police Rules 1975 and shall provide reasonable opportunity of defense and hearing to the accused officer, render a finding and make within twenty five (25) days of the receipt of this order, a recommendation for punishment or other appropriate action against the accused officer.


The accused officer shall join the proceeding on the date, time and place fixed by the enquiry officer.


DISTRICT POLICE OFFICER,
BUNER

No. 512-72 /EC, Dated 23-11-2013

For the purpose of initiating proceeding against the accused officer namely under Police Rules 1975


Defendant concerned


DISTRICT POLICE OFFICER,
BUNER

9


9

مجلس شورای اسلامی



این گزارش در مورد وضعیت مالی و اداری سازمان در سال ۱۳۹۱
 ارائه شده است. در این گزارش به موارد زیر اشاره شده است:
 ۱. وضعیت بودجه و هزینه‌ها: در سال ۱۳۹۱، بودجه سازمان
 به میزان ... تعیین گردید. کلیه هزینه‌ها طبق برنامه
 مصوب انجام شده است. ۲. وضعیت درآمد: در سال مذکور،
 درآمد سازمان به میزان ... بالغ گردید. ۳. وضعیت بدهی و طلب:
 کلیه بدهی‌ها به موقع پرداخت شده است و هیچ طلبی
 به سازمان وجود ندارد. ۴. وضعیت سرمایه: سرمایه
 سازمان در سال ۱۳۹۱ به میزان ... تغییر یافته است.
 این گزارش به منظور آشنایی اعضا و اطلاع رسانی
 تهیه شده است.

ATLANTA



Handwritten text in Persian script, including the words "مجلس" (Majlis) and "کتابخانه" (Library).

(17)

مجلس

1

2

1. *[Faint handwritten text]*
 2. *[Faint handwritten text]*
 3. *[Faint handwritten text]*
 4. *[Faint handwritten text]*
 5. *[Faint handwritten text]*
 6. *[Faint handwritten text]*
 7. *[Faint handwritten text]*
 8. *[Faint handwritten text]*
 9. *[Faint handwritten text]*
 10. *[Faint handwritten text]*

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

جناب عالی!

حروف خدمت بیوں کہ آئی زیب اعد

میرے ساتھ چونکہ بیوں میں بہت سی اخراجات تھیں۔

مردوان تصنیفی مذکورہ بخدا فخر بخش کرنا کوئی ذرا

تکریباً شفا بہت موصول نہیں ہوئی ہے۔

دو کوئی سال لگ رہا ہے اور ابھی تک

SH-c

29/11/13

~~ATTACHED~~

عالم آبرو السباع صا . لکھنؤ میں لکھی گئی
 - جون صدیوں - کہ زہر زہر زہر زہر زہر زہر
 - الائنس میں پرائس لین ، گھنٹہ گھنٹہ گھنٹہ
 مذکورہ زہر ، دعوت گھر میں کیا گیا ہے
 کیا گیا ہے کہ کسی م کی شکرت ہے
 ایجاد کرنی صحیح طریقے سے ادا کی جائے
 گادات میں جو وہ مقام نشانی کر جو عالم یاد
 مذکورہ زہر A نہایت دلیر ، بھرا اور
 اور ایجاد کرنی صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے
 کہ وہ کہ نہایت نہیں ہوئی ہے ، بلکہ
 میں نہیں ہوں ، مذکورہ گھنٹہ کسی
 بدعنوانی کی ضمانت و حصول نہیں ہوتی ہے

60/Baranna
 29/11/33

6
 1

جناب عالی

محوالہ آفرہ الامراہ جناب اسد صاحب سعید کو اللہ

معوض صحت میں کہ ASI زینب احمد صاحبہ کے ساتھ کئی بار ملاقات میں

لوہی لائسنس ڈیپارٹمنٹ میں تعینات تھی۔

مزکورہ ASI نے دیپت گردوں کے ساتھ ڈسٹریکٹ مقابلہ کیا۔ طالبان کی

کسی قسم کی دھمکی سے نہیں گھبراہٹا اور اپنی ڈیوٹی صحیح طریقہ

سے ادا کی۔ بلکہ لوہی لائسنس کے کارڈز میں موجود تمام فرائض

کو حوصلہ دیا کرتا تھا۔ مزکورہ ASI نیابت دہیہ نڈرا اور ذمہ دار

اصغر ہے۔ اور اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے۔ ان کے خلاف کسی

قسم کی شکایت نہیں ہوئی ہے۔ ان کی ڈیوٹی سے میں مطمئن ہوں۔

مزکورہ کے خلاف کسی قسم کی بدعنوانی کی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔

28/11/23

9
ATTESTED

پوال آئیہ اسلای خانہ لکھنؤ میں

صفت صورت، کہ وہ زیب اور رنگ میں
معیار سے آگے چوکی مثال میں لکھنؤ میں
مذکورہ آید انتہائی دلیر، زخمی اور اسرار
ہر قسم سے اس کے ہاں سردی کی کیفیت
نقشیات فرود میں کئی سلاخ کچھ
چٹو سکر سے لیا ہے۔

صیرا ساتھ نسبتاً کی گردان کر کے
کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے
مذکورہ آئیہ سردی میں بھی
ہر قسم سے اس کے ہاں سردی کی کیفیت
نقشیات فرود میں کئی سلاخ کچھ
چٹو سکر سے لیا ہے۔

تامل ایچا، نڈرا اور گھدا والا پور میں
سے آئیہ سردی میں مذکورہ ہے
کئی شہادتیں اور رنگ لکھنؤ میں
ہیں

29.11.33

جناب عالی!

کوالہ آمدہ اطوار جناب DSP صاحب صید کو آرڈر معروض

خدمت یوں کہ ASI زینا احمد آرڈریشن سٹاف میں پیرا صاف و
جوئی نڈال میں تعینات رہا ہے۔

مذکورہ رہا رفتاری دلیر، ذمہ دار لوہا افسر ہے۔ پر قسم حالات کا
جولان مردی ایک تو عقیدہ آ رہا ہے۔ منشیات فروش اختلاف کچھ میں
سیرے صاف تو پھر جوڑھنکے صعدہ ہے۔

سیرے صاف تو تعیناتی کی دوران کر سٹیشن یا بد عنوانی کی کوئی شکایت
موصول نہیں ہوئی ہے۔ مذکورہ کے متعلق بد عنوانی کا سوج بھ نہیں کر سکتا
بمختب سب آڈٹیشن جبرائیم اختلاف میں بھی کو با تو داخل لہروں تمام
آرٹیکل ہے۔

قابل اعتماد نڈالہ گھدا ڈال لوہا افسر ہے۔ منشیات
سیرے میں مذکورہ ASI پر پر قسم اعتماد کر سکتا ہوں لہذا انکی ڈیوٹی سے
نیابت ہی مطمئن ہوں۔

9
ATTESTED

29.11.13

لذیق سر تعلیق

(21)

ضابطہ عالی:

لذیق کی جائے پانچ روپے آمد آئی سی کے ساتھ

تھا ناگہانی میں مانت رہ گیا ہے۔ اس دوران فر کورہ

آئی سی 2 فراف کسی بھی صورت میں کریڈٹ یا ڈیلر کسی قسم

کی کوئی ضمانت نہیں کی ہے

Handwritten signature and scribbles

Handwritten signature

انکوائری خوالہ آرڈر نمبری 562-72 جان زلمی 572-82 ج 28-11 13
انکوائری نمبری 562-72 جان زلمی 572-82 ج 28-11 13
انکوائری نمبری 562-72 جان زلمی 572-82 ج 28-11 13

صالح کریم ڈالہ خان

کثرت

شماره
کثرت

تفصیل کاغذات

09	—	انڈس خداداد جائیداد راجپوت
03	200	آرڈر انکوائری نمبری 562-72 جان زلمی 572-82 ج 28-11 13
05	SAD	بیان آذان بلنر خان ساہی نمبر 4
04	"	بیان آذان محمدویاں آسی نمبر 3
06	"	بیان آذان الوریہ آسی نمبر 5
05	"	بیان آذان محمد زید آسی نمبر 4
05	"	بیان آذان امین احمد آسی نمبر 4
03	"	بیان آذان خان شہر HL نمبر 2
07	"	بیان شہر شہر 174 HL نمبر 6
03	"	بیان آذان شراخصل 396 HL نمبر 2
04	"	بیان آذان محمد زید 372 HL نمبر 3
07	"	بیان آذان شہر 173 HL نمبر 6
06	"	بیان آذان آغا خان 265 HL نمبر 5
04		پوسٹل آرڈر نمبر

71

ATTESTED

محمد صالح

Superintendent of Police
Haveli Daggar

بحوالہ چارج شیٹ نمبر 82-572 مورخہ 28/11/28ء مجاریہ دفتر ضابطہ DPO صحت پوسٹ

- 1: ناک: SI پلیڈر خان ایچ اے ڈی گیشن طوطالی حال پولیس لائن ڈاگر
- 2: ASI شہر راجہ پولیس سٹیشن ڈاگر حال پولیس لائن
- 3: ASI انور سعید پولیس سٹیشن ڈاگر حال پولیس لائن
- 4: ASI شہر زاہد پولیس سٹیشن ڈاگر حال پولیس لائن
- 5: ASI ریت احمد پولیس سٹیشن طوطالی حال پولیس لائن ڈاگر
- 6: HC خان شہر خسرو خان جوڑی حال پولیس لائن ڈاگر
- 7: HC شہر محمد ایچ اے ڈی گیشن ڈاگر حال پولیس لائن ڈاگر
- 8: HC شہر افضل پولیس پوسٹ درگانی حال پولیس لائن ڈاگر
- 9: HC شہر سعید محمد پولیس سٹیشن ڈاگر حال پولیس لائن
- 10: HC شہر بی ایچ پولیس پوسٹ کیلیل حال پولیس لائن
- 11: HC آمان خان پولیس پوسٹ بدال حال پولیس لائن ڈاگر

عنوان انکوائری بر خلاف گریٹ پولیس افسران

ضابطہ عالی!

بحوالہ مشیمہ چارج شیٹ نمبر 82-572 مورخہ 28/11/28ء سٹیشن آف

انکوائری نمبر 562-72 مورخہ 28/11/28ء مجاریہ دفتر ضابطہ DPO پوسٹ، چھٹی نمبر 40472-77

مورخہ 25/11/28ء مجاریہ دفتر ضابطہ RPO صاحب ملا کٹر تمام سید و سترگراف سوانہ عرض

ہیکہ درج بالا عہدہ داران پولیس سلسلہ طر ا تا 11 بر خلاف متعامات میں تعینات

کے دوران رد عنوانی کے الزامات سوس رپورٹ کے روشنی میں عائد ہو کر جس

پر الزام علیہ عہدہ داران پولیس کے نام چارج شیٹس دفتر ضابطہ DPO صاحب

پونیر سے جاری ہو کر میں DSP/HS کو الزام علیہ عہدہ داران پولیس کے خلاف

طوطالی کمانہ انکوائری عمل میں لانے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے جبکہ انکوائری میں

صاحب RPO ملا کٹر سید و سترگراف سوانہ مورخہ 30/11/28ء کو نتیجہ رپورٹ

طلب فرمایا ہے

(جاری)

ALLIANCE

By Superintend
Hovey F

الزام علیحدہ عدہ دارین پولیس میں سے کسی الزام کے سلسلہ میں مختلف حالت تعیناتوں سے حکم افسانہ یا اڈا صاحبان پولیس لائن ڈگری جوینر کلوز ہو کر آئے ہیں جنکو باری باری طلب کر کے انکے بیانات قلمند کے لئے الزام علیحدہ علاقہ پولیس منسلک ہر اتانا ایسے آفیسر لکھائے گئے ان الزامات بد عنوانی تسلیم کرنے سے انکار ہی ہے جن میں سے ہر ایک ایسے آفیسر کو فرض شناسی، دیانت دار کریشیا سے پاک ملک کا دفاع اور عوام کا خادم ایسے بیانات میں ظاہر کرنا ہے جن میں سے بعض ایسے ضحائی میں ہمراہ پیش تر ایسے SHO صاحبان سے تصدیقی سرٹیفکیٹ اپنی ایمانداری اور فرض شناسی کے متعلق پیش کر کے ہمراہ بیانات علیحدہ علیحدہ لکھا ہیں۔

الزام علیحدہ علاقہ پولیس کے اعمال نامے باری باری ملاحظہ اصطلاح برقی سالمہ سزایا بیوں، کارکردگی اور تعیناتوں کے متعلق کو لکھا حسب ذیل قابل ملاحظہ ہے

(1) بلینڈ خان زی حال متعینہ پولیس لائن تاریخ جہڑی 19/7/76 ریکورڈ ٹی بھوری 7/76. لوئر سکول کورس 20.3.88 انٹر میڈیٹ سکول کورس 20/88

تعیناتیاں صلح سوات: پولیس لائن سید و شریف، چوکی رضم آباد، پولیس لائن سینڈ سوات، قحانہ عالیگ، سی ای ای اے (CIA) سوات، قحانہ ڈگری جوینر چوکی فتح پور، پولیس لائن سینڈ سوات، چوکی چنگلی صلح پونیر، چوکی رضم آباد سوات، سی ای ای اے (CIA) پونیر، قحانہ نادرہ گی پونیر، چوکی رضم آباد FRP علاقہ، صلح پونیر رنگولہ، گلپانڈی پونیر، نادرہ گی پونیر، پولیس لائن سوات، قحانہ وٹہ، قحانہ چنگلی پونیر، قحانہ طوطا لکھ پونیر، قحانہ گلپانڈی صلح پونیر، قحانہ طوطا لکھ پونیر پولیس لائن ڈگری بعد پیر تال محل نامہ

یا ماگیا کہ ASI بلینڈ خان کی عرصہ بھلازوت 15 4 37 دن ماہ سال کے دوران پندرہ اچھی کارکردگیاں اور تحریفی اسنادیں لواز اگیا سے اور سزایا بیوں کی تعداد ناوہ ہیں جن میں کوئی سنگین سزایا بی میں سے جیل مندرجہ علیت ہے۔ مور 9/86 جسم ATE (2) 161 Pe 5 (2) اٹا ای لٹریس سید و شریف تمام شدہ میں بہی ہو چکا ہے

(2) ASI محمد وحید حال متعینہ پولیس لائن تاریخ جہڑی مورخ 4/1991 ریکورڈ کورس 27/92 لوئر کورس 10/97، انٹر میڈیٹ سکول کورس 20/2010

تعیناتیاں: پولیس لائن، چوکی سواری، قحانہ ناوہ گی، پولیس لائن محل چوکی گلپانڈی، پولیس لائن ڈگری، چوکی بگڑہ، لوئر کورس

Colman
DSP/HR
Dy. Superintend.
Hawas

(5)

3

بخارج گارڈ عازی کوٹ (10) ڈسٹرکٹ سکولٹی (11) مددگار خانہ ڈگر
 (12) گارڈ عازی (13) بخارج جوکی ٹولہ کلی (14) معطل لائن (15) خانہ ڈگر
 16 نوٹس لائن ڈگر محمد صاحب ASI کی عرصہ ملازمت مارچ 1991 سے
 دن 22-07-28
 میں اچھی کارکردگی، ترقی اسناد 8 ہے جبکہ بڑے انٹریوں کی تعداد 9 ہے
 جو معوی نوعیت کی سرکاریاں ہیں

(25)

(3) ASI انور سعید متعینہ نوٹس لائن تاریخ ہجرتی خوش 4/1991، ریکورڈ کوٹ

3/1992، لوئر سکول کوٹ 10/99، انٹر میڈیٹ سکول کوٹ 9/20

تعمیناتیاں :- 1 نوٹس لائن ڈگر (2) سکول کوٹ (3) خانہ طوطالی (4) جوکی
 سنٹری (5) نوٹس لائن ڈگر (6) جوکی گاگرہ (7) خانہ ڈگر (8) نوٹس لائن ڈگر
 (9) نوٹس لائن ڈگر (10) شریف شائف (11) بخارج وردی محمد نوٹس لائن ڈگر
 (12) انٹر میڈیٹ سکول کوٹ (13) جوکی سواری (14) خانہ ڈگر (15) خانہ ٹگری
 (16) خانہ گاگرہ (17) نوٹس لائن ڈگر ASI انور سعید دن 22-07-28 سال کی عرصہ
 ملازمت سے دوران اچھی کارکردگی اور ترقی اسناد بہت زیادہ سے نواز گیا ہے
 جبکہ بڑے انٹریاں کل 4 ہیں جو معوی نوعیت کے ہیں

(4) ASI محمد زاہد متعینہ نوٹس لائن تاریخ ہجرتی 3/1991، ریکورڈ کوٹ

3/1992، لوئر سکول کوٹ 4/1998، انٹر میڈیٹ سکول کوٹ 9/20

تعمیناتیاں :- 1 نوٹس لائن ڈگر (2) خانہ پیریا (3) گارڈ کراکڑ (4) MHC
 پیریا (5) خانہ ناوہی (6) شریف شائف (7) گارڈ دین (8) انٹر میڈیٹ کوٹ
 (9) لاء انٹر میڈیٹ (10) RTN مانیٹر (11) سرہ قصاب (12) اسیلہ (13) بگر (14) نوٹس لائن
 ASI محمد زاہد کی عرصہ ملازمت دن 22-07-28 سال سے دوران اچھی کارکردگی اور ترقی
 اسناد 11 ہیں جبکہ بڑے انٹریاں کل 4 اور معوی نوعیت کے ہیں

(5) ASI زینت انور خان متعینہ حال نوٹس لائن ڈگر تاریخ ہجرتی 4/1991

ریکورڈ کوٹ 3/92، لوئر کوٹ 11/97، انٹر میڈیٹ کوٹ 3/20

تعمیناتیاں (1) نوٹس لائن DAR (2) بدل جوکی (3) MTC نوٹس لائن

ATTACHED

Cybernet
 DSP/HQ
 Dy. Superintende
 Hays D

(6)

- تھانہ طوطا لہری (5) DFCL فارمٹ قبضہ مندرجہ (6) لوئر سکول کورس
- (7) پولیس لائن (8) تھانہ ناوہ گئی (9) نائب ٹوٹ SDM پتھر (10) گادو
- کنگر گھری (11) چوکی نورور سٹ (12) تھانہ طوطا لہری (13) نائب سرورنگ کوٹھم (14) پتھر
- مندر YRK (15) نائب کورٹ (16) سٹیڈی ای لیسٹل (17) انٹر سٹریٹ سکول کورس
- (18) CRO (19) OASI (20) رائنگ لیو ڈو جاہ (21) چوکی نڈل (22) تھانہ
- کلبا پٹری (23) تھانہ نگری (24) تھانہ طوطا لہری (25) پولیس لائن

ASI رخصت کی خبر کے علاوہ دن 6 ماہ سال میں اچھی کارکردگی اور تعریفی اسنادوں
 کل نوٹس ہیں جبکہ مجموعی نوعیت کے تین سزا بلیاں ہیں

(6) خان شہر 29/11/97 متعہ پولیس لائن ڈگر تاریخ ہجرتی 9/7/1996، پبلک ٹوٹ کورس
 28/4/1997، لوئر سکول کورس 26/3/2005

- تعمیراتیات: 5 پولیس لائن 2 فنگر پٹا کورس (3) ٹرننگ کورس
- (4) چوکی سواری (5) تھانہ ڈگر (6) پولیس لائن شکایتا (7) چوکی گاگرہ (8) لوئر
 - سکول کورس 9 ٹرننگ (10) گادو سرہ تھانہ (11) MM گاگرہ (12) سواری
 - (13) چوکی جھنگر (14) چوکی گاگرہ (15) AMHC چوٹ (16) MHC سواری
 - (17) تھانہ چوٹ (18) چوکی سواری (19) MHC جھنگر 25 MHC چوٹ
 - (21) پولیس لائن

خان شہر 29/11/97 کی خبر کے علاوہ دن 6 ماہ سال میں اچھی کارکردگی
 5 جبکہ سزا بلیاں 2 اور مجموعی نوعیت کے تین

(7) HC شہر 174 متعہ پولیس لائن تاریخ ہجرتی 9/1/1981، پبلک ٹوٹ
 کورس 20/3/1992 گیس اور سٹیشن گمانڈر کورس سیر بلا لائن گمانڈر کورس
 پاس کر کے سال 2000ء میں بہ عہدہ HC ترقی پاب ہوئے اچھی کارکردگی /
 تعریفی اسناد کی تعداد 23 ہیں اور مجموعی نوعیت کے سزا بلیوں کی
 تعداد گیارہ ہیں جبکہ تعمیراتیات بہ تفصیل ملاحظہ فرمائیں

By: Superintendent of P.
 Haveli Daggal

۷) شہر فیصلہ ملازمت میں ۲۸ ۰۲ ۳۲ سال ہیں جبکہ تعیناتیاں پولیس لائن

(27)

جوگی سواری، پرنسپل بلڈنگ، پولیس لائن، جوگی پور، خزانہ گارڈ، کنستبل گارڈ
طوطا لہر، گارڈ سیشن، جج صاحب پولیس لائن گارڈ منیجر، پولیس لائن، جوگی
سواری، گارڈ ٹرانسپورٹ، جوگی سواری، گارڈ، پولیس لائن، گارڈ
خانانور ڈھری، گارڈ درجائی، جیک پوسٹ دوکڑہ، گارڈ درند، جوگی پور خانہ
جوگی سواری، جیک پوسٹ جوصلہ گارڈ خانانور ڈھری، گارڈ سٹریٹ
گارڈ کوگا اور پولیس لائن

۸) شہر افضل متعینہ پولیس لائن تاریخ ہجرتی $\frac{5}{1991}$ ۱۱ ایکٹ

کورس $\frac{8}{1992}$ ناخواندہ ہڈ کٹیل ہے تفصل تعیناتیاں حسب ذیل ہے
جیک پوسٹ کڑا، CP آبیلا، جوگی بگڑہ، گارڈ درجائی، گارڈ سوخانہ
خانہ طوطا لہر، گنر DSP طوطا لہر، جوگی پور، گارڈ کیمپ کوگا بوجہ علیہ حاضر
نرخاستگی مورخ $\frac{5}{09}$ ۱۵ عوبارہ محالی مورخ $\frac{6}{09}$ ۲۹، خانہ طوطا لہر، گارڈ
خانانور ڈھری، ترقیاتی آئی مورخ $\frac{7}{10}$ ۱۲ خانہ پیر بلما، خانہ جیک پور، گارڈ
خانانور ڈھری، گارڈ درجائی، لائن کوگا، گارڈ درجائی، پولیس لائن

۱۱) کٹیل شہر افضل کی عرصہ ملازمت میں ۱۸ ۰۳ ۲۲ سال انہی کا ذکر دیا گیا ہے
خبریا کارکردگیاں سولہ ہیں

۹) شہر سپید $\frac{370}{HL}$ متعینہ پولیس لائن ڈگر تاریخ ہجرتی $\frac{7}{1996}$ 5

ایکٹورٹ کوری $\frac{4}{1997}$ ۲۸ نوٹر کوری $\frac{9}{2003}$ ۲۵ $\frac{373}{HL}$ شہر سپید کی
تعیناتیوں کی تفصل حسب ذیل ہے

پولیس لائن ڈگر، کوری منگھو پور، نوٹر کوری، پولیس لائن، گارڈ
نوائی پور، جوگی سواری، جوگی منگھو پور، گنر AD بوسید، گارڈ کنستبل
جوگی نوٹور پور، گارڈ دیوانہ بابا، گنر AD بوسید، خانہ ڈگر، STF نشان
خانہ طوطا لہر، مدد خد خانہ پیر بلما، نائب کورٹ سیشن، خانہ ڈگر

Signature
DSP/HL
Di: Superintendent
Hqys: Dagr

9
ATTESTED

(8)

سرکاری سینکڑہ mm، قحانہ ناہوگی، مدد خسر قحانہ گاگرہ، مدد خسر قحانہ ناہوگی
 AMHC قحانہ ڈگر، قحانہ ناہوگی، نائٹ کوٹ سسٹن ج، قحانہ ڈگر، لوئس لائی
 بحرور سپد 372 HC کی عرصہ ملازمت 24 4 17 سال سن اچھی کارکردگی کو
 جبکہ بیڈ انٹری نہیں ہے

(10)

HC شہروولی نمر 173 احتیجہ لوئس لائی ڈگر تاریخ ہجرتی 1/9/1981
 ایکروٹ کوریس 20³ ناواترہ ہے جس سے مورخ 6/11/1988 کو بحودہ 253 حرم
 حرم 307-34 PPC قحانہ ڈگر حرم استہاری فزیدہ دلور صدر سسر پر قحانہ زنی کرک
 شہر قحانہ کرک اسی استاد دیگر قحانہ استہاری بھی آئے تھے ان کے خاطر
 کسٹیل شہروولی نمر 173 پر قحانہ کرک شہر زنی کیا لیکن حرم استہاری
 کو حرات سے چھڑان میں کامیابی نہیں ہوئی اس کارکردگی کی بنیاد پر شہروولی نمر
 بحوالہ 0897 مورخ 10/10/96 بہ عہدہ چھڈ کسٹیل شہر قحانہ کیا گیا ہے اعمال نامہ
 میں اچھی کارکردگی کا اندراج (9) جبکہ سزا بایوں کی تعداد (18) ہے عرصہ
 ملازمت 28 2 32 دن ماہ سال ہے

تعمیرات نامہ: گارد فزوں کھی، قحانہ ڈگر، گارد بانگڑس، گارد آسنور، فوکی بلگرہ
 لوئس لائی، گارد آسنور، CP کڑاڑا، گارد فزوں کھی لوئس لائی
 گارد عازی کوٹ، لوئس لائی، گارد بڈل، گارد بڈل، قحانہ ڈگر،
 شکایتا لوئس لائی، گارد لیگانڈ، قحانہ طوطا، CP سر قحانہ شکایتا لوئس لائی
 قحانہ پیر بابا، لوئس لائی قحطل، گارد فزوں کھی، لوئس لائی،
 گارد شٹا، لوئس لائی، گارد کالکھ، لوئس لائی، گارد کلیل کنڈو
 لوئس لائی

9
ATTACHED

(11)

آقان خان نمر 265 احتیجہ لوئس لائی ڈگر تاریخ ہجرتی 127/2000
 ایکروٹ کوریس 20⁴ لوئر کوریس 20⁹ عرصہ ملازمت 18 03 17 دن ماہ سال
 2001 2008 میں ہے جبکہ اچھی کارکردگی پانچ اور سزا بایوں (3) ہے تفصیلاتوں کی تفصیل
 سے ملے گی لوئس لائی، سکویٹی شٹا، سنگر پٹ کوریس شٹا

Signature
 25/11/2008
 Superintendent of
 Haveli, Dargah

بی سرانجام، ڈیل کوڑی ہو سکتی، پولیس ذاتی، کوٹرکول کوڑی، پولیس ذاتی
 ڈیوٹی ٹی ٹی سی ہو سکتی، پولیس ذاتی، مددگار تھا، ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیوٹی
 مددگار ہوئی، ڈیل، مددگار تھا، ہیرا، ڈیوٹی، پولیس ذاتی،
 مٹھری، پولیس ذاتی، جو کی ڈیل اور پولیس ذاتی
 الزام علیحدہ ملازمان پولیس (محکمات اعلیٰ / ادنیٰ) ڈیوٹیوں سے الزام
 سواری، پورٹ، حوصلوں، پورٹ پر سوخ 23/10 کو حسب الحکم آف ان بلا ہاجیان
 میں ذاتی ڈیوٹی ہو چکے ہیں اور یہ خبر پولیس اہلکاران کے علاوہ عوام الناس
 کا یوں تک پہنچی ہے کہ الزام علیحدہ ملازمان پولیس کے ذہن کرپشن کے
 الزام میں انکو سڑی شروع ہے لیکن تا حال کسی پورٹ شخص سے انکے خلاف
 بیان قلمبند نہیں کرایا الزام علیحدہ ملازمان پولیس کے اعمال نامے اور فوجی قتل
 مطالعہ ہو کر بلیمہ رجحان ای کے خلاف مقدمہ علیٹ سوخ 9/86 جرم 2/5 ACT 1611P
 قصابہ انٹی کرپشن سید شریف سوات میں مبلغ ایک سو روپیہ رشوت ستانی سے الزام
 پر قائم ہو کر جس میں بحکم سوخ 10/87 عدالت سیشن جج / سینیل جج ACE NJJ
 پشاور سڑی کیا گیا ہے بقایا الزام علیحدہ کے اعمال ناموں اور فوجی قتلوں میں
 کرپشن کے بارے حواد میں ملی ہے
 الزام علیحدہ ملازمان پولیس کے خلاف انکے تعیناتوں کے دوران کرپشن کے
 الزامات کی رپورٹنگ حوصلوں ہو چکے ہیں بدین وجہ الزام علیحدہ ملازمان پولیس
 کی رپورٹنگ تندی ہے اور قبیلہ ملازمت پولیس کیلئے صورتوں میں ہیں انکو سڑی پورٹ

علیحدہ ہیرا
 DSP / HQ
 Dy. SP 13
 Dy. SP 13

9
 ACCEPTED
 48

ORDER

30

This order will dispose off, departmental enquiry conducted by D.SP Hqr: against the following officers/officials regarding their involvement under the charges of corruption, according to the source report with issuing proper charge sheet / summary of allegations vide this office No. 572-82/EC, dated 28.11.2013.


1. SI Balizar Khan
2. ASI Muhammad Wahab
3. ASI Anwar Saeed
4. ASI Muhammad Zahid
5. ASI Zeb Ahmad
6. HC Khan Sher No. 29
7. HC Sher Muhammad No. 174
8. FC Sher Afzal No. 396
9. HC Bahrawar Said No.372
10. HC Sher Wali No. 173
11. HC Aman Khan No. 265

On 30.11.2013 the E.O submitted finding with the conclusion that various types of complaints against the above officers /officials have been received regarding corruption during their period of posting and thus the E.O recommended their names that they are not fit for further field duties.

I Asif Iqbal Mohmand District Police Officer, Buner competent authority see no reasons to believe that the defaulters all above concerned could improve their view and change their behaviors in future.

Therefore, I agree with the recommendations of the Enquiry Officer and award major punishment to all above defaulter's officers / official's i-e compulsory retirement from service from the date of their suspension with immediate effect.

Order announced.


**DISTRICT POLICE OFFICER,
BUNER**

OB No. 159

Dated 6.12 /2013.

No 8392-94 E,

Copy of the above is submitted for favour of information to:

1. The Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. The Regional Police Officer, Malakand Region at Saidu Sharif Swat
3. All concerned.


**DISTRICT POLICE OFFICER,
BUNER**

ATTESTED

بھخور جناب ریجنل پولیس آفسر صاحب ملاکنڈ بمقام سید و شریف سوات

(31)

سائیل۔ زیب احمد سابقہ ASI پولیس ڈیپارٹمنٹ بونیر ساکن شلبانڈی ضلع بونیر

عنوان۔ اپیل بدین مراد کہ حکم نمبری 159 مورخہ 06.12.2013 مجاریہ ڈی۔ پی۔ او صاحب ضلع بونیر کو کلام قرار دیا جا کر سائیل کو اپنی ملازمت پر بحال کرنا۔

جناب عالی!

گزارش ہیڈ سائیل مورخہ 01.04.1991 کو محکمہ پولیس میں بحیثیت کنسٹیبل بھرتی ہو کر بعد فراغت ریکروٹ کورس ضلع بونیر کے مختلف تھانہ جات اور چوکیات میں ڈیوٹی سرانجام دیتا رہا۔ بدوران تعیناتی اپنا ڈیوٹی نہایت دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ سرانجام دیتے ہوئے A(1) اور B(1) کے امتحانات پاس کرنے کے بعد اعمال نامہ برے افعال سے پاک ہونے کے بناء پر افسران بالانے مجھے لوئیر کورس کے لئے منتخب کیا۔

سال 1997 میں لوئیر کورس سے فراغت پر ضلع بونیر میں افسران بالاکہ حکم کے مطابق ڈیوٹی سرانجام دیتا رہا۔ سال 2004 میں بعہدہ ہیڈ کانسٹیبل ترقیاب ہوا بحیثیت ہیڈ کانسٹیبل اپنے فرائض کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوتاہی بغیر کام کرتا رہا۔ سال 2010 میں انٹرمیڈیٹ کورس پاس کر کے سال 2011 میں ASI عہدے پر ترقیاب ہوا۔ اپنے بالاکہ افسران کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اور نہ ہی دوران ملازمت عوام کی دل آزاری کی۔ اسلئے تاحال سائیل کا اعمال نامہ ہر قسم برے اثری سے بالکل پاک ہے۔ جبکہ اچھے کارکردگی کے بناء پر وقتاً فوقتاً افسران بالانے انعامات کے علاوہ تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔

اور گزشتہ چند سالوں میں دہشت گردوں کی بونیر آمد کے دوران اپنے جائے تعیناتی پر موجودہ کبر شدت پسندوں کے خلاف ہونے والے کاروائیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ ان جملہ کارکردگی کے ساتھ مورخہ 21.10.2013 کو سائیل پولیس لائن تبدیل کیا گیا۔ مورخہ 23.10.2013 کو جناب ڈی۔ پی۔ او صاحب کی طرف سے شو کاز نوٹس موصول ہو کر جس پر اپنا تفصیلی جواب تحریر کر کے افسران بالاکہ کو اپنی بے گناہی پیش کی۔ لیکن اس کے بعد 28.11.2013 کو مجھ پر چارج شیٹ تقسیم ہو کر اس کا بھی تفصیلی جواب دیا۔ لیکن افسران بالا میرے ساتھ متفق نہ ہو کر میرے خلاف بزریعہ ڈی۔ ایس۔ پی ہیڈ کوارٹراکو آڑی کی گئی۔ بدوران اکو آڑی نہ میرے خلاف کسی نے کرپشن کی الزام عائد کی اور نہ اکو آڑی افسر کو بیان دیا۔ لیکن بغیر کسی شہادت اور ثبوت کے مورخہ 05.12.2013 کو بحوالہ آرڈر بک نمبر 158 مجھے معطل کر کے مورخہ 06.12.2013 کو بحوالہ آرڈر بک نمبر 159 ملازمت سے جبری ریٹائرڈ کیا۔ جو میرے اور میرے خاندان کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔

کیونکہ بدوران ملازمت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کی بناء پر میں چھوٹے سزا کا حقدار رہا۔ لیکن بغیر ثبوت کے محکمہ پولیس کے ساتھ تقریباً 22 سال وقادار رہنے کی سزا دی گئی۔

لہذا بذریعہ درخواست استدعا ہے کہ آپ صاحبان مہربانی فرما کر جناب ڈی۔ پی۔ او صاحب ضلع بونیر کا جبری ریٹائرمنٹ حکم مورخہ 06.12.2013 کو کلام قرار فرما کر سائیل کو ملازمت پر دوبارہ بحال کرنے کا حکم صادر فرمائیں۔ تو سائیل تاحیات دماغاً گورہے گا۔ آرڈر کا پی مہرا لف ہے۔

العارض

آپکا فرمان بردار سابقہ ASI زیب احمد
سکنہ شلبانڈی ضلع بونیر مورخہ 15/12/13

ATTACHED

مزدور جات مخالف / اصولیوں کو جس میں ملزمان کے نامزدگی اور جرم میں دفعہ 149/148 کے تحت تیزاگئی کی گئی ہے۔

کرنٹ پریس ہزار جاب نمبر 540/19 رقم شہور تعداد پانچ ہزار چھتر سو 23 اپریل 2007 (عام شہور جاب) نمبر نام (پریس) 15.5

قلم نمبر 02-22

ATTESTED

ابتدائی اطلاعی رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ 152 مجموعہ شہور جاب رپورٹ

K. W. S. Nation Wing Distt: Buner

ضلع سرنام تاریخ 5/8/2008

Table with 2 columns and 6 rows containing dates, names, and vehicle details (e.g., 04:00, 03:20, 302, 353, 324, 427, 7ATA).

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو۔ اس وقت آپ قریب دریا معائنہ اجرائی کے دوران ایک شخص کو سبوتاژ کے لیے گولی چھینا گیا۔ اس شخص کے نام احمد علی خان ہے۔ اس شخص کے بارے میں اطلاعات مل رہی ہیں۔ اس شخص کے خلاف ایک رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔ اس شخص کے خلاف ایک رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔ اس شخص کے خلاف ایک رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔

ATTACHED

435 سے لے کر 436 تک کے ہفت روزوں کے لئے
 179 ڈیڑھ لاکھ روپے، 180 ڈیڑھ لاکھ روپے
 181 ڈیڑھ لاکھ روپے، 182 ڈیڑھ لاکھ روپے
 183 ڈیڑھ لاکھ روپے، 184 ڈیڑھ لاکھ روپے
 185 ڈیڑھ لاکھ روپے، 186 ڈیڑھ لاکھ روپے
 187 ڈیڑھ لاکھ روپے، 188 ڈیڑھ لاکھ روپے
 189 ڈیڑھ لاکھ روپے، 190 ڈیڑھ لاکھ روپے
 191 ڈیڑھ لاکھ روپے، 192 ڈیڑھ لاکھ روپے
 193 ڈیڑھ لاکھ روپے، 194 ڈیڑھ لاکھ روپے
 195 ڈیڑھ لاکھ روپے، 196 ڈیڑھ لاکھ روپے
 197 ڈیڑھ لاکھ روپے، 198 ڈیڑھ لاکھ روپے
 199 ڈیڑھ لاکھ روپے، 200 ڈیڑھ لاکھ روپے

و شہروں اور
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں
 کے ہفت روزوں

Chunni Q.

MHC. P.S. P.O. BA BA
 S. 8. 08

۱۹

اطلاع کے لیے اطلاع دینے کا خط: ... کا۔ اور اس پر تحریر کنندہ ابتدائی اطلاع کا خط بطور تصدیق ہوگا۔ حروف الف باء کے

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵۴ مجموعہ ضابطہ فوجداری

تھانہ پیر بابا ضلع بونیر
علت نمبر 408 تاریخ وقت وقوع 5/8/08 بوقت 02:20 بجے

تاریخ و وقت رپورٹ	5/8/08 بوقت 03:20 بجے چاکیڈگی پرچہ 03:00/5-8-08 بجے
نام و سکونت اطلاع دہندہ مستغیث	عزیز اللہ نمبر 294/LNC متعینہ تھانہ پیر بابا
مختصر کیفیت جرم (معد دفعہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو	PPC 302, 353, 324, 427, 7ATA/148, 149 PPC/ 216-A, 109 PPC
جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت	روڈ شاہی جو حیلہ چوک بفاصلہ 1-1/2 کلومیٹر جانب جنوب از تھانہ
نام و سکونت ملزم	ملزمان 15
کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہو، ہو تو وجہ بیان کرو	برسیدگی مرسلہ پر چہ دیا گیا
تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت	بطور پیش رپورٹ

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو

اس وقت ایک تحریری مراسلہ منجانب احمد اللہ خان ASI i/c کچھوٹی ہسپتال ڈگر بدست کنسٹیبل محمد یونس نمبر 179 موصول ہو کر حرف بحرف ذیل ہے، افسر انچارج صاحب تھانہ پیر بابا حسب اطلاع سول ہسپتال ڈگر آیا کچھوٹی میں مستغیث نے بحالت مجروحیت یوں رپورٹ کیا کہ میں معہ نوشیران HC ضمیر نمبر 435/FC ہمریکاب سید محمد خان بسواری گاڑی سرکاری نمبر پشاور A-4193 جو ایک ڈرائیور شیر خان نمبر 576 دوئم موبائل گشت تھا بدوران گشت جو جو حیلہ چوک پہنچے تو پہلے سے تاک میں بیٹھے کسان اسم و مسکن نامعلوم نے پر متصل جوار سے بہ ارادہ قتل بذریعہ اسلحہ آتشین سے اندھا دھند فائرنگ شروع کی، جتنے فائرنگ سے سید محمد خان ASI گاڑی کے فرنٹ سیٹ میں لگ کر موقع پر جاں بحق ہوا جبکہ میں بائیں ران اور بائیں بازو پر اور نوشیران نمبر 36/HC ضمیر نمبر 435/FC جسم کے مختلف جگہوں پر لگ کر زخمی ہوئے ہیں اور ڈرائیور شیر خان نمبر 576 معجزانہ طور پر بچ گیا ہے گاڑی سرکاری نمبر پشاور A-4193 بھی ملزمان کے فائرنگ سے کافی نقصان رسیدہ ہو چکا ہے، واقع ہذا ہماریاں مذکورین کا چشم دید ہے، میں برخلاف مزلمان تعداد اسم و مسکن نامعلوم کے خلاف پولیس پارتی پر سرکاری ڈیوٹی کے دوران بذریعہ اسلحہ آتشین بہ ارادہ قتل فائرنگ کرنے، عوام الناس میں خوف و حراس پھیلانے و ہشت گردی کرنے ASI سید محمد خان کی قتل ہماریاں کے زخمی کرنے کی دعویداری کرتا ہوں، العبد و مستحظ کارروائی پولیس حسب گفتہ مسائل حرف بحرف درج صدر ہو کر پڑھ کر سنایا سمجھایا گیا، درستگی کا دستخط ثبت کیا

محمد یونس

جسکی میں تصدیق کرتا ہوں، مقتول ASI سید محمد خان کے کاغذات مرگ اور مجروحین رپورٹ کنسٹیبلان عزیز اللہ RHC نوشیروان، IHC نمبر 435/FC کے نقشہ ہائے ضرر بمطابق زخمت مرتب کر کے ہسپتال ڈگر حوالہ ڈاکٹر صاحب محمد عالم ہوئے، مضمون رپورٹ سے صورت جرم بالا کا ارتکاب پایا جا کر مراسلہ بغرض قائمی مقدمہ بطور سپیشل رپورٹ بدست کنسٹیبل محمد یونس نمبر 179 ارسال تھانہ ہے مراسلہ گزارش ہے SD احمد اللہ شاہ خان ASI انچارج کچولٹی DHQ ہسپتال ڈگر مورخہ 3-8-08 کاروائی تھانہ پس آمدہ مراسلہ پر مقدمہ مجرم بالا درج رجسٹر کر کے افسران بالا کو اطلاع دی جاتی ہے، نور جمال خان SHO حبیب الحق خان SI صاحب مبعہ نقل بحوالہ مد نمبر 25 امروز موقع واردات تشریف لے گئے ہیں نقل پرچہ معہ اصل مراسلہ بمراء عقب حبیب الحق خان SI صاحب بدست محمد زین شاہ نمبر 470 بھجوائی جاتی ہے، پرچہ بطور سپیشل رپورٹ گزارش ہے۔

MHC PS Pir Ba Ba

5.8.08

9
ATTENDED
13

OFFICE OF THE REGIONAL POLICE OFFICER, MALAKAND REGION, AT SAIDU SHARIF SWAT

ORDER:

This order will dispose off the appeal preferred by Ex-ASI Zeb Ahmad of Buner District for reinstatement in service.

Brief facts are that the above named Ex-ASI was found involved in corruption. His reputation was very bad among the people and too within the Police Department. He was issued proper charge sheet / statement of allegations. A proper departmental enquiry was conducted against him. The Enquiry Officer submitted his finding, reported that the appellant possess bad characters, involved in corruption, maintain bad reputation and took unfair / illegal advantage of his uniform. The Enquiry Officer further submitted that the appellant is corrupt and also not competent for field duties. The appellant was thus compulsory retired from service under Police Rules 1975 by the District Police officer, Buner vide his office OB No. 159 dated 06/12/2013.

The appellant was called in Orderly Room on 06/02/2014 and heard in person, but he did not produce any substantive materials in his defense. Therefore I uphold the order of District Police Officer; Buner, whereby the appellant has been awarded major punishment for compulsory retirement from service.

Order announced.

(Signature)
(ABDULLAH KHAN) PSP
Regional Police Officer,
Malakand, at Saidu Sharif Swat
Naqi

No. 1149-50/E,
Dated 6/2 /2013.

Copy for information and necessary action to the:-

1. District Police Officer, Buner with reference to his office Memo: No. 24/EC, dated 01/01/2014.
2. Ex-ASI Zeb Ahmad of Buner District.

*****~~~~~~*****

ATTESTED
(Signature)

To: - The District Police Officer,
Buner.

From: - The Deputy Inspector General of Police,
Malakand Region Swat.

No. 5601 / GB, dated Daggar the 27/8 /2008.

Subject: RECOMMENDATION FOR PROMOTION

Memo:-

On 08/08/2008, unidentified armed miscreants attacked Police Check Post Kingar Gali, wherein 8 Police personnel's were martyred. The miscreants escaped alongwith official weapons and uniform etc of the Police personnel's. A case vide FIR No. 409 dated 8/8/2008 /s/ 302/324/353/404/148/149 PPC read with 7 ATA of PS Pir Baba was registered against the unknown armed miscreants.

On 13/8/2008, the local inhabitants of village Shallbandi encircle the terrorist in the mountain. During this mass initiative the following Police personnel took part actively in plain clothes, alongwith the local inhabitants and encircle the miscreants / terrorists. They worked professionally and well organized. Due to their sincere efforts, they empowered the miscreants / terrorists and eradicated them once for all. This act is highly commendable and was praised by every one from the general public. The act of these official infused a new life and hop in the highly demoralized Police personnel and inhabitants of the entire District after the armed attack on Check Post Kingar Gali.

1. HC Zeb Ahmad No. 245
2. HC Muhammad Javid No. 257
3. HC Javid Khan No. 204

In view of the above the officials are recommended as under:-

1. HC Zeb Ahmad No. 245 is strongly recommended for promotion as ASI out of turn as special case in according with Standing Order No. 8/2008.
2. The other two Head Constables, who are near to coverage, are recommended for intermediate course as special case.

Their service structure is enclosed.


DISTRICT POLICE OFFICER,
BUNER.

پولیس ڈاٹ ڈوٹ 55 مہ 55 روزہ 06/12/13

55 مہ 55 روزہ 06/10/13

(36)

میں سے پریشان بنانے والے 428، انور شاہ کٹر
عبدالغنی بہر 197، ٹوٹر شاہ 777، حکیم صاحب 876، ناصر
صبر علی سواتی مارو واہ عدلی کٹر 966
ڈریشور عمر کٹر 428

صبا علی کٹر

06/12/2013

Attested
10/12/2013

9
ATTACHED

دست نامہ
(37)

نمبر 33 تاریخ 12/6/13

نمبر 33 والی زبیر اللہ 45 وقت 18:00 صبح 6/12/13
میں سے لڑائی ہوئی اور سسرہ کو عالم حسین 55 روزہ
سسرہ لدا از قریب سسرہ کو پارور واہ لست بندہ
سے دیکھ آیا سسرہ سزاؤ کو کوئی حیرت نہ تھی
پارور سزاؤ کو کوئی حیرت نہ تھی عالم حسین علی
خواجہ کی سزاؤ کو کوئی حیرت نہ تھی عالم حسین علی
کوئی حیرت نہ تھی سزاؤ کو کوئی حیرت نہ تھی
عالم حسین علی کوئی حیرت نہ تھی

دست نامہ
نمبر 33 تاریخ 12/6/13

دست نامہ
نمبر 33 تاریخ 12/6/13

Attested
نمبر 33 تاریخ 12/6/13

9
ATTESTED

Before The Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal, Peshawar

Service Appeal No. 237/2014

Zaib Ahmad s/o Noor Mohammad Ex-ASI r/o village Shalbandai District Buner

.....Appellant


VERSUS

1. *The Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.*
2. *The Regional Police Officer, (DIG) Malakand Region Swat.*
3. *The District Police Officer, Buner*

..... Respondents

INDEX

S#	DOCUMENTS	ANNEX	PAGE
1	<i>Parawise comments</i>	--	<i>1, 2 & 3</i>
2	<i>Affidavit</i>	--	<i>4</i>
3	<i>Authority letter</i>	--	<i>5</i>


District Police Officer
Buner
(Respondent No. 3)

Before The Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal, Peshawar

Service Appeal No. 237/2014

Zaib Ahmad s/o Noor Mohammad Ex-ASI r/o village Shalbandai District Buner

.....Appellant

VERSUS

1. The Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. The Regional Police Officer, (DIG) Malakand Region Swat.
3. The District Police Officer, Buner

..... Respondents

Parawise comments on behalf of Respondents No. 1, 2 & 3.

Respectfully Sheweth

Preliminary Objections:-

1. That the present appeal is time barred.
2. That the appeal is not maintainable in the present form.
3. That the appeal is bad due to misjoinder and non joinder of necessary parties.
4. That the order of the competent authority has got finality and cannot be challenged at this stage.
5. That the appellant has got no cause of action to file the present appeal
6. That the appellant has got no locus standi to file the present appeal.
7. That the appellant is estopped due to his own conduct to file appeal.
8. That the appeal is bad in the present form and is liable to be dismissed.
9. That the appellant has not come to this Honorable Tribunal with clean hands.

ON FACTS

1. Para No. 1 of the Appeal is correct to the extent of service record. The rest is incorrect.
2. Para No. 2 is correct to the extent of passing Intermediate Course and subsequent promotion to the rank of ASI. The rest is incorrect. The appellant have been involved in corruption, misuse of power and committed gross dishonesty during his service.
3. Para No. 3 of the appeal is correct. The appellant was reported to have been involved in corruption, misuse of powers and other corrupt practices.

4. *In reply to Para No. 4 it is submitted that, the Respondent No. 3 received continued secret reports against the appellant regarding his involvement in corruption and misuse of powers. The public opinion and secret reports vehemently spoke about involvement of the appellant in corruption. Furthermore the appellant was bad reputed and there were persistent secret complaint against him.*
5. *Para No. 5 of the appeal is correct.*
6. *Para No. 6 of the appeal is correct to the extent that the appellant recorded his statement. A certificate issued by Junior Rank Officer in favour of the appellant could not absolve him from charges of corruption. The Respondent No. 3 had received satisfactory public complaints against the appellant regarding his involvement in briberies and corruption.*
7. *In reply to Para No. 7 it is submitted that, the Appellant was reported to have been involved in corruption, therefore on persistent complaints disciplinary action was taken against him by Respondent No. 3. The Enquiry Officer found out that there were complaint and allegations of corruption against the Appellant. The Appellant was thus rightly compulsorily retired from service.*
8. *Para No. 8 of the appeal is correct. The Respondent No. 2 rightly upheld the order of Respondent No. 3.*
9. *Needs no comments.*


On Grounds:


- A. *Incorrect. Orders of Respondents No. 2 & 3 are just, legal and according to law.*
- B. *Incorrect. The character of the appellant has always been questionable. There were allegations and complaints of corruption against the appellant. The reputation of the appellant among public was bad enough.*
- C. *Correct to the extent that the brother of the appellant was martyred and the appellant was recommended by the then DPO Buner for out of tern promotion, but later on it was revealed that the appellant has been persistently involved in corruption, misuse of powers and other corrupt practices.*
- D. *Incorrect. The appellant has persistently been reported to have been involved in corruption and committed unwarranted acts.*


- E. Correct to the extent of disciplinary action, closing to lines and conduct of Enquiry. The certificate issued in favour of the appellant by non-competent joiner rank Officers could not absolve him from allegation and charges.
- F. Incorrect. There were secret / source reports against the appellant which could not be disclosed in the public good and interest.
- G. Incorrect. Proper departmental proceedings were conducted against the appellant in accordance with rules. The appellant was involved in corruption. There has been no intention of the respondents to score points and please the Govt. rather to make clean the police department from corrupt elements.
- H. Incorrect. There has always been a policy of police department to take action against corrupt officers / officials with in police without any favour or disfavor.
- I. Incorrect. The appellant was involved in corruption and there were complaints against him. Moreover, the Enquiry officer also found out that there have been complaints against the appellant.
- J. Incorrect. The appellant has rightly been compulsorily retired from service in accordance with Police Rules – 1975.

Prayer:-

In view of the above comments on facts and grounds it is therefore respectfully prayed that the appeal of the appellant may be dismissed with costs.


Inspector General of Police,
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar
(Respondent No. 1)


Regional Police Officer, (DIG),
Malakand Region Swat
(Respondent No. 2)


District Police Officer,
Buner,
(Respondent No. 3)

Before The Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal, Peshawar

Service Appeal No. 237/2014

Zaib Ahmad s/o Noor Mohammad Ex-ASI r/o village Shalbandai District Buner

.....Appellant

VERSUS

1. The Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. The Regional Police Officer, (DIG) Malakand Region Swat.
3. The District Police Officer, Buner


..... Respondents

✓ **AFFIDAVIT**

We the above respondents do hereby declare and solemnly affirm on oath that the contents of the reply to appeal No. 237/2014 are true / correct to the best of our knowledge / belief and nothing has been kept secret from the Honorable Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal, Peshawar.



Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar
(Respondent No. 1)



Deputy Inspector General Of Police,
Malakand Region Swat
(Respondent No. 2)



District Police Officer,
Buner,
(Respondent No. 3)

Before The Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal, Peshawar

Service Appeal No. 237/2014

Zaib Ahmad s/o Noor Mohammad Ex-ASI r/o village Shalbandai District Buner

.....Appellant


VERSUS


1. The Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. The Regional Police Officer, (DIG) Malakand Region Swat.
3. The District Police Officer, Buner


..... Respondents

AUTHORITY LETTER

We the above respondents do hereby authorize SI (Legal) Buner as representative of Police Department to appear in the court on our behalf and do whatever is needed in the court.


Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar
(Respondent No. 1)


Deputy Inspector General Of Police,
Malakand Region Swat
(Respondent No. 2)


District Police Officer,
Buner,
(Respondent No. 3)

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR.

Service Appeal No. 237/2014

Zaib Ahmad S/o Noor Muhammad, Ex-ASI, R/o Village
Shalbandai District Buner.....(Appellant)

VERSUS

The Inspector General of Police K.P.K
and others.....(Respondents)

Handwritten signature: All Ahmad
Handwritten signature: [Signature]
Handwritten date: 26/8/14

APPLICATION FOR TRANSFER OF APPEAL
FROM BENCH-I, TO BENCH-II, WHERE
SERVICE APPEAL NO. 172/2014 OF
“KHAIR UR REHMAN..VS..INSPECTOR
GENERAL OF POLICE AND OTHERS”.

Respectfully Sheweth:

1. That the captioned appeal and other appeals like “Khair ur Rehman..VS..Inspector General of Police and others” Service Appeal No. 172/2014 and others having the same allegations and having finally been decided by the same appellate authority and their proceedings before two benches mailed to a conflating judgments, hence proprietary demands that these be heard by a single bench.


2. That the appeal of "Khair ur Rehman" bearing Service Appeal No. 172/2014 along with others are pending before this august Tribunal/ Bench-II, on 15/09/2014.

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of this application, this is requested that the captioned appeal may kindly be requisitioned from Bench-I to Bench-II to meets the ends of justice.

Appellant


Through

Dated: 08/08/2014


Sahibzada Asad Ullah
Advocate Supreme Court
Of Pakistan.

AFFIDAVIT:

I, Sahibzada Asad Ullah Advocate, Peshawar, as per instructions of my client, do hereby solemnly affirm and declare, that the contents of the accompanying **Application** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Tribunal.




ADVOCATE

①

BEFORE THE HON'BLE KHYBER PAKHTOON KHWA SERVICE

TRIBUNAL, PESHAWAR

C.M No. ____/2014

In

S.A. No. 237 /2014

469
5-6-14

Zaib Ahmad.....(Petitioner)

VS

I.G.P and others.....(Respondents)

APPLICATION FOR EARLY HEARING.

Respectfully Sheweth:

1. That the above captioned appeal is pending adjudication before this august Tribunal which is fixed for hearing on 08/08/2014.
2. That the urgency is involved in the above appeal and delay will cause serious damage to appellant.


3. That other appeals pertaining to the same Division and District also pending before this august Tribunal titled Behar Ali and others vs D.P.O and others.

It is, therefore humbly prayed that on acceptance of this application the date may kindly be accelerated and the appeal may kindly be club with other appeals title above mentioned so that there will be no conflicting judgments on same issue.

Applicant

Through

Dated: 05/06/2014


Sahibzada Asadullah
Advocate, Supreme Court
of Pakistan

BEFORE THE HON'BLE KHYBER PAKHTOON KHWA SERVICE
TRIBUNAL, PESHAWAR

C.M No. ____/2014

In

S.A. No. 237/2014

Zaib Ahmad.....(Petitioner)

VS

I.G.P and others.....(Respondents)

AFFIDAVIT

I, **Sahibzada Asadullah**, Advocate, Peshawar do hereby as per information conveyed to me by my client solemnly affirm and declare that the contents of the **Application** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Tribunal.



[Handwritten Signature]
ADVOCATE

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR

Rejoinder

In

Service Appeal No.237 /2014

Zaib Ahmad.....VS.....I.G.P. K.P.K and others

REJOINEDER ON BEHALF OF
APPELLANT IN RESPONSE TO REPLY
FILED BY RESPONDENTS.

Respectfully Sheweth,

Preliminary Objections:

Preliminary Objections raised by answering respondents are erroneous and frivolous, the detailed replies thereof are as under:

1. That the appeal is with in time.
2. Para No. 2 is incorrect.
3. Para No.3 is incorrect, as all necessary and proper parties have been arrayed as respondents in the instant appeal, hence the question of mis-joinder and non-joinder is misconceived.
4. Para No.4 is incorrect, as the order passed is illegal, arbitrary and can be challenged at any time.
5. Para No.5 & 6 is incorrect being aggrieved the appellant has the cause of action to file the present appeal.
7. Para No.7 is incorrect as the matter pertains to terms and condition of service and there is no estoppel against the law.

8. That the appeal is competent in all respect and has been properly filed.
9. Para No.9 is incorrect the grievance of the appellant is genius and has come with clear hand.

On Facts:

1. Para 1 needs no explanation.
2. Para No.2 is incorrect as the allegation are baseless with no evidence.
3. Para No.3 is incorrect the respondents wanted to score to the provincial Govt, the allegations are baseless with no proof and no one came forward to support the allegations.
4. Para No.4 needs no reply.
5. Para No.5 to the extent of complaints is incorrect.
6. Para No.6 is baseless and incorrect.
7. Para No.7 is incorrect the orders are with out application on of mind to the facts and circumstances of the case.

On Grounds:

- A. Para No. A is incorrect.
- B. Para No. B is incorrect the allegations are false and baseless.
- C. Para No. C is incorrect the appellant has well explained his performance in the shape of documentary evidence.
- D. Para No. D is incorrect.
- E. Para No. E is incorrect the certificates show their performance and honesty.
- F. Para No. F is incorrect.


- G. Para No. G is incorrect no allegations have been supported by evidence oral as well as documentary.
- H. Para No. H is incorrect the efforts were only to score in the eyes of public that too at the cost of honest and trust worthy police officials.
- I. Para No. I is incorrect.
- J. Para No. J is incorrect the order is based on malafide and ulterior motive

It is, therefore, humbly preyed that the reply of answering Respondents may graciously be rejected and the appeal is prayed for may graciously be accepted with cost.

Dated: 15/09/2014

Through

Appellant



Sahibzada Asadullah
Advocate, Supreme Court
of Pakistan.

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR

Rejoinder


In

Service Appeal No.237 /2014

Zaib Ahmad.....VS.....I.G.P. K.P.K and others

AFFIDAVIT

I, **Sahibzada Asadullah** Advocate, as per information furnished by my client do hereby solemnly affirm and declare that the contents of the **Rejoinder** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Court.



ADVOCATE

①

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR

Service Appeal No. 237/2014

A.W.F. Peshawar
27/8/14

Zaib Ahmad.....(Appellant)

VERSUS

1. Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa,
Peshawar and others.....(Respondents)

APPLICATION FOR SUSPENSION OF THE
IMPUGNED ORDERS DETED 06-12-2013 AND 06-
02-2014 PASSED BY DPO BUNIR AND REGIONAL
POLICE OFFICER MALAKAND.

Respectfully Sheweth:

1. That the captioned appeals have been filed before this august court where the date is fixed as 16.04.2014.
2. That the appellants are poor police officials and have suffered a lot.

3. That the appellants have got a good case and are sanguine of its success.

4. That the balance of convenience lies in favour of the appellants and irreparable loss has occasioned to them.

It is therefore, prayed that on acceptance of this application the impugned orders may kindly be suspended till final decision of the case.

Appellant



Through

Dated: 27/02/2014

Sahibzada Asadullah
Advocate Supreme Court
Of Pakistan.

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR**

Service Appeal No. 237/2014

Zaib Ahmad.....(Appellant)


VERSUS

Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.


And others.....(Respondents)

AFFIDAVIT

I, Sahibzada Asadullah Advocate, as per instruction of my client, do hereby solemnly affirm and declare, that all the contents of accompanying Service Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been kept concealed from this Hon'ble Tribunal.



ADVOCATE



①

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR

Service Appeal No. 237/2014

Zaib Ahmad.....(Appellant)

VERSUS

1. Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa,
Peshawar and others.....(Respondents)

APPLICATION FOR SUSPENSION OF THE
IMPUGNED ORDERS DATED 06-12-2013 AND 06-
02-2014 PASSED BY DPO BUNIR AND REGIONAL
POLICE OFFICER MALAKAND.

Respectfully Sheweth:

1. That the captioned appeals have been filed before this august court where the date is fixed as 16.04.2014.
2. That the appellants are poor police officials and have suffered a lot.

3. That the appellants have got a good case and are sanguine of its success.


4. That the balance of convenience lies in favour of the appellants and irreparable loss has occasioned to them.

It is therefore, prayed that on acceptance of this application the impugned orders may kindly be suspended till final decision of the case.

Appellant

Through

Dated: 27/02/2014


Sahibzada Asadullah
Advocate Supreme Court
Of Pakistan.

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR

Service Appeal No. 237/2014


Zaib Ahmad.....(Appellant)

VERSUS

Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
And others.....(Respondents)

AFFIDAVIT

I, Sahibzada Asadullah Advocate, as per instruction of my client, do hereby solemnly affirm and declare, that all the contents of accompanying Service Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been kept concealed from this Hon'ble Tribunal.



ADVOCATE